

## ROOTWORDS OF SURAH AN NISA 116-125

مَّفْرُوضًا	مَّرِيدًا	إِنثًا	بَعِيدًا	ضَلَالًا
ف ر ض	م ر د	أ ن ث	ب ع د	ض ل ل
طے شدہ مقرر	سرکش کو	دیویوں کو	دور کا	بھٹکنا
Appointed	Rebellious	Female (deities)	Far away	Straying

خُسْرَانًا	فَ+لَ+يُغَيِّرَنَّ	فَ+لَ+يُبَيِّتُكُنَّ	لَ+أُمْنِيْنَ+هُمْ
خ س ر	حرف+لام التوكيد+	حرف+لام التوكيد+	لام التوكيد+م ن ي+
	غ ي ر	ب ت ك	ضمير مفعول به
نقصان اٹھانا	پس+البتة+وہ ضرور بدل دیں گے	پھر+البتة+وہ ضرور کاٹیں گے	البتة+میں ضرور امیدیں دلاؤں گا+ان کو
a loss	so they will surely change	so they will surely cut off	surely arouse desires in them

بِ+أَمَانِيٍّ+كُمُ	مَحِيصًا	غُرُورًا	يُمْنِيٍّ+هُمْ
حرف+م ن ي+ضمير	ح ي ص	غ ر ر	م ن ي+ضمير مفعول به
ساتھ+آرزوں کے+تمہاری	جائے پناہ	دھوکے کا	امیدیں دلاتا ہے+ان کو
by your desire	any escape	deception	arouses desires in them

حَنِيفًا	وَجْهَهُ + هُوَ	نَقِيرًا
ح ن ف	و ج ه + ضمير	ن ق ر
يكسو ہو كر	چہرہ + اپنا	تل برابر
(the) upright?	His Face	(even as much as) the speck on a date-seed

www.englishalmanac.com